



سوال

(262) دوران نماز پیشانی پر بال آنا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا عورت کے لیے جائز ہے کہ نماز کے دوران اس کے بال اس کی پیشانی پر آئے ہوتے ہوں۔۔۔ وجزاکم اللہ۔

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ انہیں بٹالے حتیٰ کہ سجدہ زمین پر ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے اور یہی مسئلہ مرد کے لیے ہے کہ اگر سجدہ میں اس کی پگھڑی یا سر کے کپڑے کا کوئی حصہ اس کی پیشانی پر ہو تو کوئی حرج نہیں ہے مگر چہرہ اور ہاتھ براہ راست زمین پر پڑیں تو زیادہ بہتر ہے، سوائے اس کے کہ کوئی خاص ضرورت ہو مثلاً زمین بہت زیادہ گرم ہو یا ٹھنڈی ہو تو کپڑے وغیرہ پر سجدہ جائز ہے، بلکہ اگر یہ کیفیت اس کے لیے زیادہ خشوع میں معاون ہو تو کپڑے وغیرہ پر سجدہ زیادہ افضل ہوگا اور عورت کے لیے واجب ہے کہ بالغ ہونے کے بعد نماز کے لیے اسے اپنا سارا جسم اور سارے بال چھپانے چاہئیں، صرف چہرہ اور ہاتھ کھلے رکھنے کی اجازت ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ:

لا یقبل اللہ صلواتہ حائض الامحار (سنن الترمذی، کتاب الصلاة، باب لا تقبل صلاة المرأة الامحار، حدیث: 377۔ سنن ابی داؤد، کتاب الصلاة، باب المرأة تصلی بغیر خمار، حدیث: 641۔ سنن ابن ماجہ، کتاب الطہارة، باب اذا حاضت الجاریة لم تصل الامحار، حدیث: 655)

”اللہ تعالیٰ کسی حائضہ کی نماز اوڑھنی کے بغیر قبول نہیں فرماتا ہے۔“

اور یہاں حائضہ سے مراد بالغہ ہے۔

ھذا ما عندي واللہ اعلم بالصواب

احکام و مسائل، خواتین کا انسائیکلو پیڈیا



محدث فتویٰ